

## 21271-اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان میں وصیت مقدم کیوں مقدم ہے {من بعد وصیت یو صی بہا اودین}

### سوال

قرآن مجید میں لفظ وصیت لفظ دین سے مقدم کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ ہمیں علم تو یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی وصیت سے قبل کی جاتی ہے؟

### پسندیدہ جواب

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے :

اگر یہ کہا جائے کہ قرض سے پہلے وصیت ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے، حالانکہ قرض کی ادائیگی بالاجماع مقدم ہے، یعنی میت کے ترک سے قرض کی ادائیگی اس کی وصیت پوری کرنے سے قبل کی جائے گی۔۔۔

اس سوال کا جواب پانچ و جھوٹ سے ہے :

### پہلی :

یہاں پر صرف میراث پر مقدم ہیں اور ان دونوں کی اپنی ترتیب کا کوئی لحاظ نہیں اسی لیے وصیت لفظی طور پر دین سے مقدم ہے۔

### دوسرے جواب :

اس لیے کہ وصیت کا التزام بہت ہی کم تھا اس کی اہمیت کی بنا پر اسے مقدم کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿لَا يَنْهَا رَبِّنَةٌ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ﴾۔ الحکفت (49)

تو اس آیت میں صغیرہ کو بکیرہ پر مقدم کیا گیا ہے۔

### تیسرا جواب :

وصیت کو اس لیے مقدم کیا گیا ہے کہ یہ مسکینوں اور کمزور لوگوں کا حق ہے اور قرض کو اس لیے مونخر کیا ہے کہ وہ قرض لینے والے کا حق ہے جو اسے قوت و طاقت سے طلب کر سکتا ہے اور اسے اس میں بات کرنے کا حق بھی ہے۔

دیکھیں : الجامع لاحکام القرآن للقرطبی (5/74)۔

بعض علماء کرام نے اس میں دو وجہات کا اور بھی اضافہ کیا ہے :

وصیت کو دین سے اس لیے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ وصیت تو صرف نکلی اور صلہ رحمی کی بنابر کی جاتی ہے، مخالف دین کے کیونکہ اس میں غالباً تفریط کی نوع ہوتی ہے، تو وصیت کے افضل ہونے کی وجہ سے اسے مقدم کیا گیا۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ: وصیت اس لیے مقدم کی گئی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو بغیر کسی عوض کے لی جاتی ہے اور دین و قرض عوض کی بنابر ہے تو وصیت کا اخراج قرض کی ادائیگی سے بھی وارث کے لیے مشکل ہے۔

اور وصیت کا ادا کرنا تفریط کے گمان میں آتا ہے لیکن قرض کی ادائیگی میں وارث مطمئن ہوتا ہے اس لیے وصیت کو مقدم کیا گیا ہے۔

دیکھیں کتاب: *التحقیقات المرضیہ فی الباحث الفرضیہ ص (27)* تالیف: شیخ صالح الغوزان۔

واللہ اعلم۔